

میگام کاؤنٹی
ہنگامی صورتحال کی تیاری
کے لئے ہدایت نامہ



مشقی کتاب اور ہدایات

mcoem.macombgov.org • 5270-469 (586) 58 ہنگامی صورتحال کی نگرانی اور مواصلات



فہرستِ مضامین

- 4 می کام کاؤنٹی کے افسرِ اعلیٰ کا پیغام
- 5 ہنگامی صورتحال کی حکمتِ عملی کا تعارف
- 7 خاندانی تیاری کے بارے میں سوالنامہ
- 8 گھر کو لاحق خطرے کی تلاش
- 11 آپ تیاری کے لئے کیا کر سکتے ہیں
- 13 ہنگامی صورتحال کے لئے رسد کا سامان تیار کریں
- 14 آپ کے گھر سے انخلاء کے لئے سامان
- 15 آپ کی گاڑی کے لئے سانچہ سے نمٹنے کا سامان
- 16 ہنگامی صورتحال میں ابلاغ کا منصوبہ
- 18 ہنگامی صورتحال کی اطلاع کے لئے فون نمبر
- 19 بچوں کی آیا کی معلومات
- 21 گھر سے باہر خطرے کے انتباہ کا نظام
- 23 انخلاء اور پناہ گاہ
- 25 جب کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہوتی ہے
- 27 تیار رہیں! سیلاب
- 28 کسی آفت / ہنگامی صورتحال سے بحالی
- 31 دہشت گردی
- 32 دہشت گردی کی 8 علامات
- 33 دہشت گرد حملے سے نمٹنے کی تیاری
- 35 فعال حملہ آور
- 37 پر رابطہ کریں 9-1-1



کاؤنٹی کے افسرِ اعلیٰ کا پیغام



مجھے خوشی ہے کہ میں می کام کاؤنٹی میں کام کرنے اور یہاں پر رہنے والے افراد کو کمیونٹی کی ہنگامی صورتحال کی تیاری کی یہ مشقی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ یہ مشقی کتاب قدرتی اور انسانی ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آفات کی تیاری کے سلسلے میں مددگار ہوگی۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر اس کے لیے منصوبہ بندی کر لی جائے تو اس سے متاثرہ افراد کو محفوظ اور موثر انداز میں مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے قبل کی گئی منصوبہ بندی ایک مضبوط کمیونٹی کی تشکیل کرتی ہے اور ہنگامی صورتحال میں خدمات کی فراہمی کے لیے مختص ہمارے اہلکاروں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کمیونٹی بھی مدد کے لیے تیار ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ کچھ وقت نکال کر اپنے اہل خانہ، دوستوں اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں سے ان ہدایات کے بارے میں بات چیت کر لیں۔ صرف تھوڑی سی تیاری بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کو محفوظ رہنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ہدایت نامہ کو آپ کسی ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں سے اس تک رسائی آسان ہو اور اس میں موجود بہت سی تجاویز کو اپنے گھر یا کام کی جگہ پر اچھے طریقے سے عمل میں بھی لائیں گے۔ اگر آپ ہنگامی صورتحال کی منصوبہ بندی سے متعلق اضافی معلومات چاہتے ہیں تو براہ براہ مہربانی می کام کاؤنٹی ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ کمیونٹی کیشنس سے یہاں پر رابطہ کریں mcoem@macombgov.org یا 5270-469 (586)۔ کریں

مخلص،

Mark A. Hackel

مختلف اقسام کی آفات کی تیاری کے سلسلے میں آپ کی مدد کے لیے اس ہدایت نامہ میں فراہم کردہ معلومات کو امریکی ریڈ کراس، مرکز برائے انضباطِ امراض (سی ڈی سی)، وفاقی ہنگامی صورتحال کی نگران ایجنسی (ایف ای ایم اے)، اور محکمہ برائے تحفظِ وطن (ڈی ایچ ایس) کی فراہم کردہ مختلف مطبوعات سے مرتب کیا گیا ہے۔





ہنگامی صورتحال
کی حکمتِ عملی
کا تعارف

ہنگامی صورتحال کی حکمتِ عملی کا تعارف

میگام کاؤنٹی نے کسی ہنگامی صورتحال یا آفت کی تیاری کے لئے درج ذیل اقدامات کیے ہیں۔

- ایمرجنسی مینجمنٹ ڈائریکٹر کو میگام کاؤنٹی میں ہنگامی صورتحال اور آفت سے بچاؤ، تیاری، جوابی کارروائی، بازیابی اور تحقیف کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے
- ہنگامی صورتحال کے منصوبوں، پروٹوکول اور ہدایات کا ایک ایسا نظام تشکیل دیا گیا ہے جس میں ہنگامی صورتحال یا آفات کی صورت میں لاگو ہونے والے طریقہ کار کے مجموعی تصور کو پیش کیا گیا ہے۔ ان میں کاؤنٹی کے علاوہ زیر اختیار علاقے، اسکول، اسپتال اور کاروباروں کے لیے بھی منصوبے شامل ہیں۔
- ہنگامی صورتحال میں کام کرنے والے عملے میں نجی اور سرکاری شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو شامل کیا گیا ہے، تاہم اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے تربیت یافتہ رضاکاروں کی بھی نشاندہی کردی گئی ہے۔

کے ترمیم شدہ پبلک ایکٹ 390 کے تحت ، میگام 1976 کاؤنٹی نے پر پوری کاؤنٹی میں ہنگامی صورتحال اور آفات سے قبل ، ان کے دوران ، اور ان کے بعد روک تھام ، تیاری ، رد عمل ، بازیابی اور تحقیف کی سرگرمیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے۔ ڈائریکٹر آف ایمرجنسی مینجمنٹ کی تعیناتی کاؤنٹی کے افسرِ اعلیٰ کی جانب سے کی گئی ہے اور مشی گن پولیس ایمرجنسی مینجمنٹ اور ہوم لینڈ سیکورٹی ڈویژن کی جانب سے قائم کردہ معیارات اور شرائط کا پروگرام میں اطلاق کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔

یہ مشقی کتاب ہماری کمیونٹی کو ہنگامی صورتحال اور آفات کی تیاری میں مدد کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یہ میگام کاؤنٹی میں آپ کو درپیش خطرات سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ حالانکہ اپنے پیاروں پر کسی آفت کے آنے کا سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے، تاہم اگر آپ وقت نکال کر اس معلومات کو دیکھ لیں گے تو کسی ہنگامی صورتحال میں اپنی، اپنے خاندان اور اپنی املاک کی حفاظت کے لئے فوری اقدام اٹھانے کے لئے آپ بہتر طور پر تیار ہوں گے۔



MACOMB COUNTY
COMTEC
Communications & Technology
Center

خاندانی تیاری کا سوالنامہ

ہدایت نامہ پڑھنے سے پہلے، آپ سے گزارش ہے کہ ہنگامی صورتحال کی بنیادی تیاریوں کے بارے میں اپنی موجودہ تقسیم کے اندازے کے لیے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ ذیل میں موجود تمام عنوانات کا کتاب میں پوری تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے، لہذا اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی صفحہ پلٹیں اور پڑھنا جاری رکھیں

کیا آپ اپنے گھر اور کمیونٹی میں موجود خطرات سے آگاہ ہیں؟

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے؟

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خاندان زیادہ تر ہنگامی صورتحال سے نسنے کے لئے تیار ہے؟

کیا آپ نے اپنے کنبے کے ساتھ ہنگامی صورتحال کی منصوبہ بندی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے؟

کیا آپ کے پاس ہنگامی صورتحال میں خاندانی افراد کے لیے رسد کے سامان کی کٹ ہے کہ جس میں شامل

ہیں:

- ہر فرد کے لیے تین دن تک پانی کی رسد (ایک دن میں ایک فرد کے لیے تین گیلن پانی)
- خراب نہ ہونے والی غذائی اشیاء کی تین دن تک کی رسد
- ہر فرد کے لیے ایک مرتبہ تبدیل کرنے کے لیے لباس"
- ہر فرد کے لیے علیحدہ کمبل یا سلپنگ بیگ"
- نسخہ پر لکھی جانے والی موجودہ ادویات کے ساتھ ابتدائی طبی امداد کا سامان (جو چار دن کے لیے کافی ہو)"
- اضافی بیٹریوں کے ساتھ بیٹری سے چلنے والا ریڈیو اور فلیش لائٹ
- کار کی چابیوں کا اضافی سیٹ
- ایک کریڈٹ کارڈ اور کچھ نقد رقم
- صفائی کی اشیاء
- پالتو جانوروں کے لیے مطلوبہ اشیاء

کیا آپ کے گھر میں موجود تمام سموک ڈٹیکٹرز کام کر رہے ہیں؟

آگ بجھانے والا آلہ موجود ہے؟ ABC کیا آپ کے پاس بھرا ہوا

کیا آپ نے اپنے اہل خانہ کو آگ بجھانے کے آلے کے درست استعمال کی تربیت دی ہے؟

کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے گھر میں گیس، بجلی وغیرہ کے کنکیشن کو کس طرح منقطع کرنا ہے؟

گھر کو لاحق خطرات کا پتہ لگانا

خاندان کی تیاری کا ایک اہم قدم آپ کے گھر میں موجود خطرات کی نشاندہی کرنا ہے۔ لہذا اب جبکہ آپ نے سوالنامہ مکمل کر لیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ گھر میں موجود خطرات کو بھی تلاش کریں۔

نیچے دی گئی جانچ کی فہرست میں خطرات کا باعث بننے والی متعدد چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جن میں حرکت ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہیں، گر سکتی ہیں یا پھر جل سکتی ہیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے اپنے موجودہ طرز عمل کی بنیاد پر ہر زمرے میں جی ہاں یا جی نہیں کا جواب دیں۔ مثال کے طور پر، باورچی خانے کے حصے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کھانا پکاتے وقت چست و آرامدہ کپڑے پہنتے ہیں؟ اگر آپ کھانا پکاتے وقت چست و آرامدہ کپڑے پہنتے ہیں تو براہ مہربانی جی ہاں پر نشان لگائیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جی نہیں پر نشان لگائیں۔ ایک بار جب آپ تمام سوالات کا جواب دے کر تلاش کا عمل مکمل کریں، تو آپ ہدایات کے کتابچے کو پڑھنا جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر موجود تمام خطرات کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لئے ایک منصوبہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف دور اندیشی، تخیل اور عقل درکار ہیں۔

سگریٹ نوشی اور ماچس

- جی ہاں جی نہیں
- ماچس اور لائٹرو کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں
 - ایش ٹرے ایسے استعمال کریں جو بڑے اور گہرے ہوں اور ان میں کوئی نوک نہ ہو
 - غنودگی میں یا بستر پر کبھی سگریٹ نوشی نہ کریں
 - سگریٹ کے استعمال شدہ ٹاروں اور راکھ کو روزانہ دھات کے کسی ڈبے میں پھینکنیں
 - رات کو روزانہ سلگتے سگریٹوں کا فرنیچر میں معائنہ کریں، خاص طور پر دعوؤں کے بعد

باورچی خانہ

- جی ہاں جی نہیں
- کھانا پکاتے وقت چست و آرامدہ کپڑے پہنیں
 - کھانا پک رہا ہو تو اس میں غفلت مت برتیں
 - کھانا پکاتے ہوئے پین کے ہینڈل کو اندر کی جانب رکھیں
 - آگ لگنے کے خطرے کے پیش نظر پین کا ڈھکن قریب رکھیں
 - کھانا پکانے کی جگہوں کو صاف اور آتش گیر اشیاء سے پاک رکھیں
 - ڈوریاں مت لٹکائیں
 - یقینی بنائیں کہ باورچی خانے کے سنک کے قریب نسب برقی پلگ IFG (گراؤنڈ فالٹ انشورٹ) سے لیس ہیں
 - تیز کی گئی چھریاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں

بجلی

- جی ہاں جی نہیں
- لہما کرنے والی تاروں کے استعمال سے اجتناب کریں (اگر استعمال کی ہے تو درست و آج کی درجہ بندی کو یقینی بنائیں)
 - ایک برقی پلگ میں حرارت پیدا کرنے والے صرف ایک آلے کو لگائیں
 - یقینی بنائیں کہ تاروں کو قالینوں کے نیچے نہ رکھا جائے
 - تصدیق کریں سرکٹس پر اضافی بوجھ نہ ہو
 - ٹوٹی ہوئی تاروں، پلوں، ساکٹوں کو تبدیل کر دیں
 - لیپ یا تنصیبات کے لئے درست و آج کے بلب کا استعمال کریں
 - انسپرٹن کی بیج درجہ بندی کے لئے فیوز / سرکٹ بریکر کا معائنہ کریں
 - فیوز یا سرکٹ بریکروں کو اوور رائڈ یا بائی پاس نہ کریں

گھر سے باہر

- جی ہاں جی نہیں
- گھر کے آس پاس سے خشک پودوں اور کوڑے کو صاف کریں
 - بار بی کیو گرلز عمارتوں اور خشک پودوں سے دور استعمال کریں
 - بار بی کیو بریکٹ (کوئلے کے چورے سے بنا ایندھن) کو دھات کے برتن میں بچھائیں
 - دیہی عمارتوں کے آس پاس "سبزے کی پٹی" برقرار رکھیں
 - لمبے جلانے یا جلانے کے ڈرم کے استعمال سے پہلے آگ بجھانے والے مجھے سے رجوع کریں

تمام کمرے

کپڑے / واشر اور ڈرائر

- جی ہاں جی نہیں
- تصدیق کریں کہ آلات کو مناسب طریقے سے گراؤنڈ ہیں
 - یقینی بنائیں کہ لٹ فلٹر صاف اور قابل استعمال ہے
 - ہواداری کی نالی اور ہواداری کے راستے کا معائنہ کریں تاکہ یقین بنایا جا سکے کہ وہ صاف ہیں اور بلا روک ٹوک ہوا کا بہاؤ فراہم کرتی ہیں

جی ہاں جی نہیں

- گرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے یقینی بنائیں کہ تمام دریاں (قالین، غالیچے) مکمل طور پر زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
- بچوں کے گلا گھسنے کے خطرات کو کم کرنے کے لئے بلائینڈز اور پردوں پر لگی ڈوریوں کو الگ کر دیں
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ باہر نکلنے کے راستوں میں رکاوٹیں نہ ہوں
- گیراج / بالا خانہ / سائبان
- جی ہاں جی نہیں
- پٹرول صرف موٹر ایندھن کے طور پر استعمال کریں اور کبھی بھی گھر کے اندر ذخیرہ مت کریں
- صرف تھوڑی مقدار میں پٹرول رکھیں، اگر ضروری ہو تو منظور شدہ کنٹینر میں بند کر دیں
- آتشگیر مائع جیسا کہ روغن اور رقیق کار کو اپنے اصل کنٹینر میں رکھیں اور زمین پر یا اس کے قریب اور حرارت، چنگاریوں یا شعلوں کے ذرائع سے دور رکھیں

آگ بجھانے کا آلہ

- جی ہاں جی نہیں
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر طرح کی آگ بجھانے والا آلہ (درجہ اے بی سی) ایسی جگہ موجود ہو کہ جہاں سے اس تک رسائی آسان ہو
 - اس بات کو یقینی بنائیں گھر کے تمام افراد اس کو استعمال کرنا جانتے ہوں
 - کیا باورچی خانے، کپڑے، تہہ خانے اور سونے کی جگہوں پر آگ بجھانے کے اضافی آلہ جات رکھے گئے ہیں؟
 - استعمال شدہ تیل لگے چیتھڑوں کو سیل بند دھات کے ڈبوں میں محفوظ کریں

- ○ کبھی بھی آتش گیر اشیاء جیسا کہ اخبارات اور رسائل کو ذخیرہ مت کریں
- ○ میکانک کاؤنٹی، مشین گن

حرارتی سازوسامان

جی ہاں جی نہیں

- ○ یقینی بنائیں کہ آتشزدگی کی داخلی جگہیں اور گیس / لکڑی کے چولہے مقامی ضابطوں کی تعمیل کرتے ہیں
- ○ چینی کی سالانہ صفائی اور معائنہ کریں
- ○ راکھ کو دھات کے ڈبوں میں تلف کریں
- ○ کپڑے، آرائشی سامان اور برقی تاریخیں دیوار پر نصب ہیئر سے کم از کم 21 انچ اور پورٹریبل ہیئر سے 63 انچ دور رکھیں
- ○ فرنیس کی ہر سال سروس کروائیں
- ○ پانی کے ہیئر کے تھر موٹسٹ کو 021 ڈگری فارن ہائٹ پر رکھیں
- ○ سنے یا متبادل گیس سے چلنے والی پانی کے ہیئر کو فرش سے کم از کم 81 انچ بلند رکھیں

غسل خانے

جی ہاں جی نہیں

- ○ صفائی کے لیے استعمال ہونے والی زہریلی اشیاء اور ادویات کو ایسی الماریوں میں رکھیں جو جہاں "بچوں کی رسائی ناممکن ہو"
- ○ شیشے کی بوتلوں کے بجائے پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کریں
- ○ یقینی بنائیں کہ تمام برقی پلگ IFG سے لیس ہیں

اہل خانہ کی تیاری

جی ہاں جی نہیں

- ○ دوسری منزل سمیت ہر کمرے سے دو بلا روک ٹوک اخراج کا منصوبہ بنائیں اور یقینی بنائیں کہ ہر کوئی ان کو جانتا ہے
- ○ باہر اٹھنے ہونے کے لیے کوئی جگہ مقرر کریں
- ○ کسی آفت / ہنگامی صورتحال کے بعد اہل خانہ کی خبر لینے کے لئے ریاست

سے باہر رابطہ کریں

- ○ فرار کی منصوبہ بندی تیار کریں اور اس کی باقاعدگی سے مشق کریں
- ○ اہم کاغذات اور قیمتی سامان آگ سے محفوظ تجوری یا الماری میں محفوظ کریں
- ○ اپنے گھر اور اس میں موجود چیزوں کی مناسب (زلزلہ، سیلاب، کرایہ دار، آگ) انشورنس اور کوریج کو برقرار رکھیں

دھوئیں اور 20C کا سراغ لگانے والے آلہ جات

جی ہاں جی نہیں

- ○ ہر منزل پر مناسب طریقے سے نصب کریں
- ○ ہر مہینے کے پہلے منگیل کو جانچ کریں
- ○ ہر چھ ماہ بعد بیٹری تبدیل کریں

تمام خطرات (دیگر سوچ بچار)

جی ہاں جی نہیں

- ○ ایسا فرنیچر جو بھاری، لمبا اور سیدھا کھڑا ہو اس کو دیوار کے ساتھ پیچ لگا کر نصب کر لیں
- ○ باورچی خانے اور غسل خانے کی الماریوں کو "ثبت" (خود کار طور پر بند ہونے والی) چھتھیوں سے محفوظ بنائیں
- ○ بھاری اور / یا ٹوٹ سکنے والی نازک اشیاء کو نچلے طاقتوں پر رکھیں
- ○ بنیاد میں دراڑوں کا معائنہ کریں اور ضرورت کے مطابق مرمت کریں
- ○ دیوار پر لگے آئینے اور تصاویر کو محفوظ بنائیں یا انہیں بھاری تار کے ساتھ لٹکا دیں، حلقہ دار پیچ یا ٹنگ اینڈ گروو میٹرز کے ذریعے باندھ دیں۔
- ○ برف ہٹانے کے سازوسامان کا صحیح استعمال (بیلچہ اور / یا برف ہٹانے والا آلہ)
- ○ سردی کے موسم کے لیے گاڑیوں کی موزوں انداز میں تیاری (بریکس، بجلی کا نظام، اینجن، تیل کی تبدیلی، لائٹس، ٹائر)
- ○ پھسلنے کو کم کرنے کے لئے برف پر چلنے وقت مناسب جوتے پہننا۔
- ○ ممکنہ پھسلنے والے علاقوں سے برف ہٹانے کے لئے پیدل چلنے والے رستے پر نمک ڈالنا۔
- ○ اپنے گھر میں ہنگامی پناہ گاہ کی شناخت کریں

خاندان کی منصوبہ بندی اور اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ ہنگامی صورتحال یا آفت میں کیا کرنا ہے عملی مشقیں ایک بہترین طریقہ ہیں

آگ بجھانے کی مشق

کنبہ کے ہر فرد کو ایک مرتبہ نیچے گھٹنوں کے بل چل کر گھر سے باہر ملاقات کی ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہئے۔ اور امید ہے کہ، آپ کے پاس اپنی رُکو-چھوڑو-اور-گھومو کی مشق کرنے کے لئے لان میں ایک نرم جگہ موجود ہوگی۔ جبکہ آپ عنوان پر ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے الارم میں نئی بیٹریاں موجود ہیں، آپ کا آگ بجھانے کا آلہ بھرا ہوا ہے، اور آپ کے باہر انخلاء کے متعدد راستے صاف ہیں۔

لطیف ہنگامی صورتحال

کنبہ کے کسی "زخمی" فرد کی دیکھ بھال کریں۔ اگر آپ کے کنبے میں ٹین ایج یا ثانوی اسکول کی عمر کے بچے ہیں تو ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے والدین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کریں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کو بڑی طرح سے زخم لگے ہیں اور غنودگی محسوس کر رہے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ انہیں معلوم ہو کہ آپ کا طبی سامان کہاں پڑا ہے اور انہیں ان کے استعمال کی مشق کرنے دیں۔ چھوٹے یا زیادہ حساس بچوں کے لئے آپ مارکر سے اپنے بازو پر سرخ لکیر کے ساتھ گہرے زخم کا نشان بنا کر مشق کو قدرے حقیقت پسندانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر ان سے آپ کی مرحم پٹی کرنے کو کہیں۔





آپ تیاری
کے لئے کیا
کر سکتے ہیں

آپ تیاری کے لئے کیا کر سکتے ہیں

آپ اور آپ کے اہل خانہ کو لاحق خطرات کو سمجھنا، ہنگامی منصوبہ بندی کا ایک اہم قدم ہے۔ درج ذیل فہرست میں ان خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے جو جنوب مشرقی مشی گن میں پیش آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہم زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں اور اپنے پورے علاقے میں کھلتے ہیں، اس لئے ہمیں اس بات کی آگاہی ہونے چاہئے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو سکتا ہے۔ اپنے خاندان سے ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ہنگامی منصوبے کو تیار کرنا شروع کر سکیں۔

طوبانِ برق و باران / ژالہ باری	تیز ہوائیں / طوفانی جھکڑ	موسم سرما کے طوفان
عمارت میں لگی آگ	سیلاب	مضر مادی واقعہ
صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال	خشک سالی	ذرائع آمد و رفت میں خرابی
جنگلی آگ	شہری ہنگامہ	انتہائی درجہ حرارت
متحرک حملہ آور	دہشت گردی / سہوتاژ	بجلی کی بندش

قومی تیاری کے مہماتی علاقے

روک تھام
دہشت گردی کے ایک قریب واقع، خطرے یا اصل اقدام کی مزاحمت کریں، بچیں یا روکیں

تحفظ
ہمارے شہریوں، رہائشیوں، زائرین، اور اثاثوں کو سب سے بڑے خطرات اور حادثات سے اس طرح بچائیں جس سے ہمارے مفادات، خواہشات اور طرز زندگی فروغ پائیں۔

تخفیف
مستقبل کی آفات کے اثرات کو کم کر کے جانی و مالی نقصان کو کم کریں۔

ردِ عمل
جان بچانے، املاک اور ماحولیات کے تحفظ اور تباہ کن واقعے کے نتیجے میں بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جلد ردِ عمل کا مظاہرہ کریں۔

بحالی
تباہ کن واقعے سے متاثرہ ذرائع آمد و رفت، رہائش اور پائیدار معیشت کی بروقت بحالی، مضبوطی اور حیات نو کے ساتھ ساتھ برادریوں کی صحت، معاشرتی، ثقافتی، تاریخی اور ماحولیاتی ساخت پر توجہ دے کر بحالی کریں۔

ہنگامی صورتحال کے لئے رسد کا سامان تیار کریں

آپ کو چاہئے کہ آپ پانی، خوراک، ابتدائی طبی امداد کی رسد، کپڑے، بستر، اوزار اور دیگر ضروری سامان وقت سے پہلے جمع کر کے رکھیں اور اس کے لیے تیار رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے یا پھر آپ لمبے عرصے کے لیے بجلی، حرارت یا پانی کے بغیر گزارہ کرنا پڑے۔ سامان کو 5 گیلن کے برابر بانٹیوں، ڈفل بیگ یا بیک پیک میں رکھا جاسکتا ہے۔

ہنگامی صورتحال کے لئے رسد کے سامان میں درج ذیل اشیاء کو شامل کرنے پر غور کریں:

- نقشبے (شہر، کاؤنٹی، ریاست)
- رقم (نقد اور کریڈٹ)
- ڈکٹ ٹیپ
- پانی
- (تین دن کی رسد - ایک گیلن / فنڈ / دن)
- پانی ایسے برتن میں ذخیرہ کریں جو سیل بند ہو اور ٹوٹ نہ سکتا ہو (ہر چھ ماہ بعد تبدیل کریں)
- بارش سے بچاؤ کا سازو سامان
- کمبل یا سلپنگ بیگ
- گرم ٹوپی، دستانے، لباس اور گرم زیر جامہ
- ٹوپی، دھوپ سے بچانے والی جلدی کریم، دھوپ کے چٹھے
- خصوصی اشیاء بچوں کے لئے:
- شیر خوار بچوں کے لیے فارمولا دودھ، جوس اور پاؤڈر دودھ
- ڈیپری اور صافیاں
- بوتلیں اور دوائیں
- بالغوں کے لئے:
- دوائیں / انسولین
- دندان سازی کی ضروریات
- کانٹیکٹ لینس، رسد اور اضافی چشمہ
- تفریح - کھیل کا سامان، کتابیں
- موبائل فون
- پالتو جانوروں کے لئے:
- کھانا اور پانی
- کالر اور پنا / ہارنیں
- جانور اٹھانے والا ہوادار بکسا / پنجرہ
- دستاویزات
- دستاویزات
- (پانی سے محفوظ ڈبے میں)
- ہنگامی صورتحال کی تیاری کا دستور العمل
- اہم فون نمبرز
- وصیت، بیمہ پالیسیاں
- معاہدے، دستاویز انتقال، سرمایہ کاری کی دستاویزات اور اقرار نامے
- پاسپورٹ، سوشل سیکورٹی کارڈ
- حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ
- خاندانی ریکارڈ (بیدائش، شادی، موت)
- قیمتی گھریلو سامان کی فہرست
- مالی ریکارڈ (بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ، کھاتہ جات)
- اجازت نامے (شکار / ماہی گیری / آگ)
- اوزار اور رسد
- اضافی بیٹریوں اور اضافی بلب کے ساتھ فلش لائٹ
- اضافی بیٹریوں کے ساتھ بیٹری سے چلنے والا ریڈیو
- پانی سے محفوظ ڈبے میں موجود ماچیس
- لائٹر، اشارہ دینے والی تیز روشنی، آگ بجھانے والا آلہ
- تہہ دار بیچلے
- انواع آلات
- یونٹھی چاقو
- کاغذ، پنسل، قینچی، گوند
- صفائی
- حفظان صحت کی ذاتی اشیاء
- کچرہ ڈالنے کے لیے استعمال ہونے والی پلاسٹک کی تھیلیاں اور فیتے
- پلاسٹک کی ہالٹی تنگ ڈھکن کے ساتھ
- جراثیم کش چھڑکاؤ
- تولیے یا ڈاؤنر وائیں
- ٹوائلٹ پیپر
- کپڑے اور بستر
- (ہر فرد کے لئے لباس اور جوتے کا ایک مکمل سیٹ)
- مضبوط جوتے یا کام میں استعمال ہونے والے جوتے

آپ کے گھر سے انخلاء کے لئے سامان

آگ، سیلاب یا دیگر ہنگامی صورتحال میں آپ کو فوری طور پر اپنا گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل اشیاء کو جمع کر کے کسی ایسے ڈبے میں ڈالیں جو باآسانی اٹھایا جاسکتا ہو اور اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں سے آپ گھر سے نکلتے ہوئے اٹھا کر لے جاسکیں۔

اپنے گھر سے انخلاء کے سامان میں درج ذیل اشیاء کو شامل کرنے پر غور کریں:

- 2x پانی کی بوتلیں
- خراب نہ ہونے والی اور بہت زیادہ توانائی فراہم کرنے والی غذائی اشیاء (گرانولا بارز، ڈبہ بند گری دار میوے، سخت کینڈی، ٹریل مکس، مونگ پھلی کا مکھن اور کریکر)
- ایک چھوٹی بیٹری سے چلنے والا ریڈیو (AM کو ترجیح دی جاتی ہے) اور اضافی بیٹریاں
- ابتدائی طبی امداد کی چھوٹی بکس
- اضافی بیٹریوں کے ساتھ فلیش لائٹ
- تھوڑی سی رقم نقد رقم اور کھلے پیسے، اور ایک کریڈٹ کارڈ (چھوٹا پانی سے محفوظ ڈبہ)
- کار اور گھر کی چابیوں کا ایک اضافی سیٹ
- پورٹبل، آگ سے محفوظ ڈبے میں موجود خاندان کی ضروری دستاویزات
 - سوشل سیکورٹی کارڈ
 - بیجہ پالیسی
 - وصیتیں
 - دستاویزات انتقال
 - بچت اور چیکوں کے کھاتوں کے نمبر
 - پیدائش کی سند اور نکاح نامہ
 - گھریلو املاک اور قیمتی سامان / اثاثوں کی فہرست (آپ کے گھر میں موجود سامان کی وڈیو یا تصاویر سود مند ثابت ہو سکتی ہیں)
- چشمے کی اضافی جوڑی
- انخلاء کا منصوبہ (رابطوں کے نمبر، ملاقات کا مقام)
- پالتو جانوروں کی اشیاء



آپ کی گاڑی کے لئے سانحہ سے نیٹنے کا سامان

اپنی گاڑی کو ہنگامی سامان سے لیس رکھیں۔ اپنے بیٹریوں کی ٹنکی میں موجود بیٹریوں کی مقدار سے آگاہی رکھیں اور اگر کسی آنے والی ہنگامی صورتحال کے انتباہات نشر کئے جا رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹریوں بھروالیں۔ بیٹریوں اسٹیشن ہنگامی صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بند ہو جائیں۔ ان اشیاء کو پور ٹیبل ڈسبے میں رکھیں۔

اپنی گاڑی کے لئے سانحہ سے نیٹنے کی کٹ میں درج ذیل اشیاء کو شامل کرنے پر غور کریں:

- 2x پانی کی بوتلیں
- خراب نہ ہونے والی اور بہت زیادہ توانائی فراہم کرنے والی غذائی اشیاء (گرانولا بارز، ڈبہ بند گری دار میوے، سخت کینڈی، ٹریل کس، مونگ پھلی کا مکھن اور کریکر)
- اضافی بیٹریوں کے ساتھ فلیش لائٹ
- ابتدائی طبی امداد کا کبس
- جھپر کی تاریں
- ٹائر کی مرمت کا سامان اور پمپ
- عکاس مثلث اور بنیان
- آگ بجھانے کا آلہ
- برسائی
- پورٹ ایبل کار چارجر
- مقامی نقشے
- انواع آلات
- اشارہ دینے والی تیز روشنی
- کبل

سرد موسم کی صورتحال میں شامل ہیں:

- کبل
- برف کا بیچلہ / برش
- بیچلہ
- گرم کپڑے
- بلی کی گندگی (کرشن)



ہنگامی صورتحال کی مواصلات کا منصوبہ بنائیں

ہنگامی صورتحال پیش آنے سے پہلے ہی اگر اس کی تیاری کر لی جائے تو آپ کا خاندان بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے خاندان کا کون سا فرد کہاں ہے تو اس سے دل مطمئن رہتا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو یا ریاست سے باہر آفت سے متاثرہ کوئی دوسرا رشتہ دار۔ مواصلاتی منصوبے کی موجودگی میں آپ اپنے پورے خاندان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اطمینان قلب کے لیے ان آسان اقدامات پر عمل کریں۔

- کسی آفت کی صورت میں شہر سے باہر کا رابطہ منتخب کریں جہاں آپ کے خاندان والے فون کر کے خبر گیری کر پائیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں خاندان کے تمام افراد کو ان فون نمبروں کا علم ہو۔ رابطے کے نمبروں کا ایک ایسا چھوٹا سا کارڈ بنائیں جس کو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھ پائیں۔
- شہر سے باہر رابطے کی باقاعدگی سے جانچ کریں۔ ان سے بھی خود کو فون کروائیں۔
- اپنے بچے کے اسکول میں عہدیداروں کے پاس اپنے ہنگامی رابطہ نمبر چھوڑیں۔

دوسروں کی مدد کرنا یاد رکھیں

ممکن ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بزرگ یا معذور فرد رہتا ہو، جس کو ہنگامی صورتحال میں مدد کی ضرورت پڑے۔ کی اپنی فہرست میں ان کو بھی شامل کر لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہنگامی صورتحال میں ان کی بھی مدد کرنی ہے۔

- ان پڑوسیوں کی فہرست بنائیں جو اضافی مدد استعمال کر سکتے ہیں۔
- اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ان سے فون نمبر اور پتہ طلب کر لیں۔
- ہنگامی صورتحال میں پڑوسیوں سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ آیا ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔
- شہر سے باہر رابطے کی شناخت میں ان کی مدد کریں۔



جب کوئی آفت آتی ہے تو ہنگامی خدمات کی مدد کے لئے ہمیشہ 9-1-1 ڈائل کرنا یاد رکھیں۔ انکو آری کرنے، معلومات حاصل کرنے یا غیر ہنگامی امداد کی درخواست کرنے کے لئے 9-1-1 کو استعمال مت کریں۔ کسی آفت کے دوران، ہنگامی ترسیل کنندوں کے پاس مدد کے لیے بہت زیادہ کالیں آتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی کال واقعی ہنگامی نوعیت کی ہے۔ اس سے ان افراد کو مدد مل پائے گی جن کو حقیقت میں مدد کی ضرورت ہوگی۔

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات یا خدشات ہیں جو ہنگامی نوعیت کے نہیں ہیں تو اپنے مقامی حکومتی امور کے فون نمبر یا آپ کے مقامی ٹی وی، ریڈیو، یا خبروں کے نشریاتی اسٹیشنوں کے فراہم کردہ ہاٹ لائن فون نمبر پر کال کرنے کی کوشش کریں۔

اپنے بچوں کو ہنگامی کال کرنے کا طریقہ سکھائیں، 9-1-1 پر ہمیشہ ہنگامی صورتحال میں ہی کال کرنے کی اہمیت پر زور دیں۔

ہنگامی فون نمبرز

پولیس	911 ڈائل کریں
آگ	911 ڈائل کریں
ایمبولینس	911 ڈائل کریں
کاؤنٹی شرف	586-469-5151
کاؤنٹی ہنگامی صورتحال کی انتظامی	586-469-5270
محکمہ صحت کاؤنٹی	586-469-5235
کاؤنٹی عوامی خدمات	586-469-5235
کاؤنٹی محکمہ سڑک	586-463-8671
مشی گن اسٹیٹ پولیس (رچمنڈ پوسٹ)	586-727-0200
ایف بی آئی (ڈیٹرائٹ دفتر)	313-965-2323
تیل / کیمیکل گرنے کا قومی مرکز برائے ردِ عمل	800-424-8802
یو ایس کوسٹ گارڈ کی ہنگامی سروسز	800-321-4400
کسٹم اور بارڈر کا تحفظ (سی بی پی)	800-232-5378
ایمگریشن اور کسٹمز نفاذ (آئی سی ای)	313-568-6042
مشی گن مرکز برائے روک تھام زہر	800-222-1222
ایس ای ایم آئی امریکن ریڈ کراس (چارہ سازی آفت)	313-833-8816
سالویشن آرمی (خدمات برائے آفات)	888-803-8858
ڈی ٹی ای توانائی	800-477-4747
صارفین کی توانائی	800-477-5050

ہنگامی رابطہ کے فون

مقامی رابطہ

نام _____
شہر _____
فون _____

علاقے سے باہر کا رابطہ

نام _____
شہر _____
فون _____

قریبی رشتہ دار

نام _____
شہر _____
فون _____

خاندان کے کاروباری نمبر

باپ _____
ماں _____
دیگر _____

ہنگامی ٹیلیفون نمبر

محکمہ پولیس _____
محکمہ آگ _____
ہسپتال _____

خاندان کے ڈاکٹر

نام _____ فون _____
نام _____ فون _____
نام _____ فون _____

اٹھے ہونے کی جگہیں

آپ کے گھر کے قریب _____
آپ کے گھر سے دور ، اگر آپ واپس نہیں آسکتے _____
پتہ _____
فون _____
کوشش کرنے کے لئے پہلا راستہ _____

سہولیات

بجلی _____
گیس _____
پانی _____



آیا کو ملنے والے لوگوں کی معلومات

ہم اکثر آیا کی خدمات کا استعمال کرتے ہیں۔ خواہ وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہوں یا کمیونٹی سے بھرتی کئے گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ہنگامی صورتحال کے منصوبوں اور رابطوں سے واقف نہ ہوں۔ جب ہم اپنے پیاروں اور گھروں کی دیکھ بھال دوسروں کے سپرد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے تمام متعلقہ افراد کو اس بات کا علم ہو کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔

اس کے گھر کا پتہ: _____
اس کے گھر کا فون نمبر: _____

ہنگامی نمبر

پولیس ، آگ یا امبولینس
9-1-1 پر کال کریں
قوت سماعت سے محروم
586-469-5093

والدین اس مقام پر ہیں:

پتہ: _____
فون: _____
سیل فون: وہ تقریباً صبح / شام۔ _____ بچے واپس آئیں گے۔

گھر کا ہنگامی صورتحال کا منصوبہ _____ پر موجود ہے۔
گھر کا ہنگامی صورتحال کا سامان _____ پر موجود ہے۔

یاد دہانی:

- کسی کے لیے بھی اس وقت دروازہ مت کھولیں جب تک کہ آپ ان کی شناخت نہ کر لیں ، ان کے آنے کے مقصد کی تصدیق نہ کر لیں اور اس بات کا اندازہ نہ لگالیں کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
- تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو مقفل رکھیں
- بچے چاہے گھر کے اندر کھیل رہے ہوں یا گھر سے باہر، آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ وہ کہاں ہیں
- شدید موسمیاتی اعلانات پر توجہ دیں اور ان کے مطابق رد عمل ظاہر کریں

اہم اطلاعات: _____





گھر سے باہر انتباہ کا نظام

مندرجہ ذیل حالات میں سائرُن بجایا جاسکتا ہے:

- قومی موسمیاتی خدمت نے می کام کاؤنٹی میں مخصوص مدت کے لئے طوفان کا انتباہ جاری کیا ہے یا تربیت یافتہ موسم کا پتہ لگانے والوں نے می کام کاؤنٹی کے قریب یا اس کے اندر طوفان آنے کی اطلاع دی ہے۔
- 70 میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیز مکنہ ہواؤں یا جھکڑ کے ملتے جلتے نقصانات کے ساتھ شدید طوفان برق و باراں
- کسی مضر مادے کا پھیلاؤ جس سے کمیونٹی متاثر ہو سکتی ہے اور انخلاء یا تیار شدہ پناہ گاہ میں جانے کی ضرورت پڑ سکتی۔

بیرونی انتباہ کے سائرُن کا مقصد آپ کی کمیونٹی میں داخل ہونے والے فوری خطرے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اگر سائرُن بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم ہے کہ مکنہ خطرہ کیا ہے۔ خطرے کی نوعیت کا تعین کرنے اور اپنی حفاظت سے متعلق ہدایات حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ فوری طور پر پناہ حاصل کریں اور تمام ریڈیو اور خبروں کی نشریات تک رسائی حاصل کریں۔

موسم کے انتباہ کا نظام

ایسی صورت میں کہ جب ہر گزرتا پل انتہائی قیمتی ہو تو ایسی صورت میں موبائل آلات پر ذاتی موسمیاتی ریڈیو اور ذاتی موسمیاتی کی اپیلی کیشنز کے ذریعے جان بچانے والی معلومات تک رسائی ملتی رہتی ہے۔ چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں، یا سفر میں، ہنگامی موسمیاتی انتباہ کا نظام آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو کسی بھی موسم کی ہنگامی صورتحال کے لئے تیار رہنے کے لئے ایک مفید ذریعہ ہے۔

گھر پر

گھر میں موسمیاتی نشریات والا ریڈیو رکھنے سے آپ کو پیش آنے والی موسمیاتی ہنگامی صورتحال کے بارے میں آگاہی مل سکتی ہے۔ اگر آپ موسمیاتی خبریں دیکھتے اور سنتے رہیں گے تو اس سے آپ کو اپنے علاقے میں موجود موسمیاتی نظام کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بصری معلومات ملتی رہیں گی۔

اگر موسمیاتی ریڈیو کی سہولت موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں موبائل پر موسمیاتی کی اپیلی کیشنز رکھنے سے آپ کو اپنے کام کی جگہ پر آنے والی کسی بھی موسمیاتی ہنگامی صورتحال کے بارے میں جاننے میں مدد مل سکتی ہے اور اس سے آپ کو گھر کی جانب سفر کرنے کے لئے تیاری میں بھی مدد مل سکتے ہیں





انخلاء اور

تیار شدہ

پناہ گاہ

حکام کی جانب سے اگر آپ کو اپنا گھر یا کام کی جگہ خالی کرنے کا کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ محفوظ انداز میں انخلاء کے لیے آپ کے پاس شاید صرف چند منٹ ہی ہوں، لہذا آپ کو تیار رہنا چاہئے اور اطلاع ملنے ہی فوری طور پر نکل جائیں۔ انخلاء کے دورانیہ کا انحصار ہنگامی صورتحال کی نوعیت پر ہے، یہ چند گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو کم از کم تین دن تک اپنی اور اپنے اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لئے تیار رہنا چاہئے۔



اگر آپ کو انخلاء کا کہا گیا ہے تو، براہ کرم ان سادہ نکات پر عمل کریں

- اپنے ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو چالو کریں اور ہنگامی حکام کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کے لئے تیار رہیں
- آفات کی رسد کا اپنا سامان لیں
- گھر کو تالا لگائیں اور نکل جائیں
- دوسروں کو بتانے کے لئے کہ آپ کہاں گئے ہیں اپنے دروازے پر اطلاع کی ایک پرچی لگا دیں۔ مقامی پولیس محلوں میں گشت کرتی رہے گی
- حکام کے مقرر کردہ سفری راستوں کا ہی استعمال کریں


اگر وقت ہو تو انخلاء سے قبل کسی دوست یا رشتے دار کے ہاں جانے کا انتخاب کریں، ان کا آمد امور کو انجام دینے کی

کوشش کریں

- گھر سے نکلنے سے پہلے گیس وغیرہ کے تمام کنکیشن منقطع کر دیں (اگر آپ کو معلوم ہو کہ ان کو محفوظ انداز میں کس طرح منقطع کرنا ہے) واپس آئیں تو دوبارہ شروع کرنے کے لئے اپنی گیس کمپنی سے رابطہ کریں۔

تیار شدہ پناہ گاہ

- بعض اوقات ہنگامی صورتحال کے دوران انخلاء کی بجائے آپ کا وہیں رہنا بہتر ہو سکتا ہے جہاں آپ موجود ہیں۔ اگر آپ کو حکام کی جانب سے "تیار شدہ پناہ گاہ" میں جانے کے لئے کہا جاتا ہے تو ان کارآمد نکات پر عمل کریں:
- تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کریں اور مقفل کر دیں
 - تمام پیکھے، حرارتی اور لیٹر کنڈیشننگ نظام بند کر دیں
 - آتشزدگی کا والو بند کر دیں
 - اگر آپ کو باقاعدہ طریقہ کار معلوم ہے تو بجلی مکمل طور پر بند کر دیں
 - شدید طوفان کے لئے، اپنے تہہ خانے یا کھڑکیوں کے بغیر سب سے اندرونی کمرے میں چلے جائیں
 - کسی کیمیائی خطرہ کی صورت میں، زمین سے اونچائی والا مقام بہتر ہے کیونکہ زیادہ تر کیمیائی مادے ہوا سے بھاری ہوتے ہیں اور تہہ خانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔
 - اپنا بیڑی سے چلنے والا ریڈیو چالو کریں اور مزید ہدایات سنیں
 - حکم اگر ہنگامی حکام کی جانب سے دیا گیا ہے تو آپ کو انخلاء کے منصوبے کو بنانے کی یقین دہانی کرنی چاہئے



جب ایک ہنگامی
صورت حال پیش
آتی ہے

جب ایک ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے

کسی ہنگامی صورتحال کے دوران اور اس کے بعد، پرسکون رہنا ضروری ہے۔ کوئی واقعہ گزر جانے کے بعد بھی خطرہ موجود ہو سکتا ہے۔ بظاہر محفوظ مقام بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اپنے مقامی ہنگامی صورتحال کے ٹی وی، ریڈیو اور نشریاتی اسٹیشنوں کو سنتے اور دیکھتے رہیں اور تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کے مشورے پر عمل کریں۔ جب تک انخلاء کے لیے نہ کہا جائے سڑکوں پر جانے سے اجتناب کریں، تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے لیے راستہ صاف رہے۔

کسی ہنگامی صورتحال میں ممکن ہے کہ طویل مدت تک آپ کو خوراک، پانی اور بجلی کی فراہمی منقطع رہے۔ بجلی چلے جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے کھانے کی دوکانیں بند ہو جائیں اور آپ کو پانی کی فراہمی بھی منقطع ہو جائے، چند تجاویز یہ ہیں:

پانی

کسی آفت کی صورت میں اگر آپ کو صاف پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی تو آپ برف کے کیوب اور اپنے گرم پانی کے ٹینک یا پائپوں میں موجود پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر باہر نکلنا محفوظ ہو تو آپ ندیوں، دریاؤں، بارش، تالاب اور جھیلوں، قدرتی چشموں اور برف کا پانی (5 منٹ تک) اُبال کر، بھاپ سے پانی بنا کر یا جراثیم کش سے پانی صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کو بلچ سے پاک کرنے کے لئے فی گیلن پانی میں 10 قطرے بلچ استعمال کریں۔ صرف عام گھریلو مائع بلچ کا استعمال کریں جس میں صرف 5.25 فیصد سوڈیم ہائپوکلورائٹ ہوتا ہے۔

خوراک

ہنگامی صورتحال کے دوران اور فوراً بعد یہ ضروری ہے کہ آپ دن میں کم از کم ایک مرتبہ متوازن کھانا کھا کر اپنی توانائی بحال رکھیں۔ وٹامن، معدنیات اور / یا پروٹین سپلیمنٹس لیں۔

اگر آپ کی بجلی چلی جاتی ہے

- پرسکون رہیں، اور ایسے اہل خانہ یا ہمسایوں کی مدد کریں جن کو شدید گرمی یا سردی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔
- بجلی کی بحالی تک بیڑیوں والی فلیش لائٹ استعمال کریں۔ موم بتیاں استعمال نہ کریں (اس سے آگ لگ سکتی ہے)
- بجلی پر چلنے والے حساس آلات، مثلاً کمپیوٹر، ڈی وی ڈی پلیئر، اور ٹیلی ویژن بند کر دیں
- بجلی پر چلنے والے ایسے بھاری آلات جو بجلی بند ہونے کے وقت چالو تھے، انہیں بند کر دیں، تاکہ جب بجلی بحال ہو تو اچانک اضافی بجلی کے دباؤ پہنچنے والے نقصان سے بچا جاسکے
- فرج اور فریجز کے دروازے کم سے کم کھولیں، تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ وقت تک ٹھنڈک موجود رہے۔
- اپنے گھر کو گرم کرنے کے لئے چولہے کا استعمال نہ کریں۔ اس سے آگ یا گیس کے مہلک اخراج کا خطرہ ہو سکتا ہے
- گاڑی چلاتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ اگر ٹریفک کے سنکھل خراب ہو چکے ہیں تو ہر سنکھل کو رکنے کا اشارہ سمجھیں۔ ہر چوراہے پر پوری طرح رُک جائیں اور آگے بڑھنے سے پہلے آس پاس دیکھ لیں
- بجلی کی بندش کے بارے میں پوچھنے کے لئے 911 پر فون مت کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے خبریں نشر کرنے والے ریڈیو اسٹیشن سنیں

اگر آپ کے پاس پالتو جانور ہیں

اپنے پالتو جانوروں کے لئے بقا کا سامان تیار کریں۔ اس میں شامل ہونا چاہئے:

- شناختی کارڈ اور ریٹیج ٹیگ
- جانور اٹھانے والا ہوادار کسلا/ چنچرا
- پٹا
- ادویات (میعاد ختم ہونے کی تاریخوں کی جانچ کرنا یقینی بنائیں)
- کچرے سے نمٹنے کے لئے اخبارات اور پلاسٹک کے کوڑے کے لفافے
- کم از کم دو ہفتوں تک خوراک، پانی، اور کھانے کے پیالوں کی رسد
- ویٹرنری ریکارڈ (جانوروں کی زیادہ تر پناہ گاہیں ویکسینیشن کے ثبوت کے بغیر پالتو جانوروں کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتیں)



BE READY! FLOODS

تیار رہیں!

سیلاب

دوران

DURING

بنتائی رسید
انگھنی کریں
اور مقامی ریڈیو یا
ٹی وی پر نظر کردہ تازہ
ترین معلومات کے مطابق
عمل کریں۔

موسم کا
انتباہ

بجلی بحال ہونے پر چھکوں سے بچنے
کے لئے آلات کو پلگوں سے نکال
دیں۔

سیلاب کے باعث زیر آب سڑکوں پر
گاڑی چلانے یا پیدل چلنے سے پرہیز
کریں۔ گاڑیاں یا انسان ریلے میں بہہ
سکتے ہیں۔



باہر موجود چیزوں کو باندھ
دیں یا اندر لے آئیں۔

سیلاب کے خطروں کو پہچانیں

- اپنے قریب سیلاب زدہ یا
لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات
علاقوں کی شناخت کریں۔



- رواں ستوار کے، نخلوں، اور شاہا ہی تباہی کے نئی کیو پتیا
تھیں ر علم میں سے رہا کے ہوگا ہپنا می پچکا

- رہا کے ستوار کے، نخلوں سے ب سیلاب قریب
تھیں ر علم میں


جب بجلی کی تاریں گر جائیں، آپ کے گھر میں
پانی آ جائے، یا گھر سے نکلنے سے پہلے گیس، بجلی
اور پانی بند کر دیں۔

ایسی چیزیں پھینک دیں جنہیں جراثیم کش
نہیں بنایا جاسکتا، جیسا کہ دیواروں کے کور،
کپڑے، غلجھے اور دیواری گتے۔

محفوظ حفظان صحت اپنائیں



جراثیم سے بچنے میں مدد کے
لئے صابن اور پانی سے ہاتھ
دھوئیں۔



پینے، کھانا پکانے یا صفائی کے لیے محفوظ
انداز میں پانی استعمال کرنے کے حوالے
سے اپنے مقامی عہدیداروں کی جانب
سے فراہم کردہ معلومات پر عمل کریں۔

بعد میں

AFTER

چیزیں سکھانے
کے لئے پچھلے، لیٹر
کنڈیشننگ یونٹ، اور
نئی دور کرنے والا آلہ
استعمال کریں۔

صفائی کے لئے، ربڑ کے جوتے اور
پلاسٹک کے دستا نئے پہنیں۔

دیواریں، سخت فرش اور دوسری سطحوں
صابن اور پانی سے صاف کریں۔ جراثیم
کش کے لئے 1 کپ بلچ اور 1 گیلن
پانی کا مرکب استعمال کریں۔

احتیاط! سیلابی پانی میں کوڑا
شامل ہو سکتا ہے۔



"مزید معلومات کے لئے ملاحظہ کیجئے"

[/sdoolf/sretsasid/vog.cdc.ycnegreme//:ptth](https://sdoolf/sretsasid/vog.cdc.ycnegreme//:ptth)

کسی آفات / ہنگامی صورتحال سے بحالی

ہنگامی صورتحال کے لئے اپنے مقامی ریڈیو یا ٹیلی ویژن نشریات کو سنتے اور دیکھتے رہیں
معلومات اور ہدایات

کسی آفت یا ہنگامی صورتحال کے بعد بحالی کے مرحلے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ آفت یا ہنگامی صورتحال سے قبل اور بعد میں اگر مناسب اقدامات اٹھائے جائیں تو بحالی کا عمل جلد اور موثر انداز میں تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر تمام مقیم افراد کے پاس ان کی جائیداد کا بیمہ مناسب انداز میں موجود ہو تو اس سے بحالی کے عمل میں مدد ملتی ہے۔ ذیل میں درج ہدایات بحالی کے عمل میں معاون ثابت ہوں گی۔

عمومی ہدایات

- بحالی کے عمل کو شروع کرنے کے لئے جلد از جلد اپنے بیمہ کنندہ سے رابطہ کریں۔
- آفت / ہنگامی صورتحال کے بعد اپنے اخراجات کی رسیدوں کے ساتھ ایک ریکارڈ برقرار رکھیں۔
- یہ مستقبل میں بیمہ اور انکم ٹیکس کے اہم دعوے ہیں۔
- گیس، بجلی وغیرہ کے خطرات سے آگاہ رہیں، اور کبھی بھی خود سے گیس، بجلی وغیرہ کو بحال کرنے / منقطع کرنے کی کوشش مت کریں۔
- اگر کھانے، لباس یا عارضی رہائش کی ضرورت ہو تو امریکن ریڈ کراس (313) 8816-833 یا سالویشن آرمی (888) 885-803 سے رابطہ کریں۔

طوفانی جھکڑ

- عمارت میں داخل ہوتے وقت احتیاط برتیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ دیواریں اور چھتیں اپنی بنیادوں پر موجود اور محفوظ ہیں۔
- قدرتی گیس کی خراب لائنوں سے آگاہ رہیں۔ قدرتی گیس کی بو یا سنناہٹ کی آواز اس بات اشارہ ہے کہ آپ کی قدرتی گیس کی لائن کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی علامات کی موجودگی میں گھر کو ہوادار بنانے کے لئے کھڑکیاں کھول دیں اور فوری طور پر باہر نکل جائیں۔ جب تک آپ کو مکمل طور پر محفوظ ہونے کی یقین دہانی نہ ہو جائے سگریٹ نوشی، تیل، گیس کی لائین، یا روشنی کے لیے موم تیلوں کے استعمال سے پرہیز کریں۔
- چنگاریوں، ٹوٹی یا جلی ہوئی تاروں سے محتاط رہیں، بجلی چالو ہو سکتی ہے اور کھلی تاروں میں کرنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علاقہ غیر محفوظ ہے تو باہر نکل جائیں اور مدد کے لئے کال کریں۔

آگ

- اسی تمام خوراک، مشروبات اور ادویات ضائع کر دیں جن کو گرمی، دھواں یا کالک لگ گئی ہو۔
- آگ سے محفوظ تجوری تب تک نہ کھولیں جب تک ٹھنڈی نہ ہو جائے۔

موسم سرما

- اگر آپ کو باہر جانا پڑے تو، مناسب جوتوں کے ساتھ برف پر احتیاط سے چلیں۔
- برف ہٹاتے ہوئے احتیاط برتیں، سخت محنت کرنے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ محفوظ رہنے کے لئے وقفے لیں اور برف کو اٹھانے کی بجائے دھکیلیں۔
- فراسٹ بائیٹ کی ابتدائی علامات سے آگاہ رہیں جن میں احساس ختم ہونا اور آپ بیرونی کے اعضاء (جیسے انگلیاں، ایڑیاں، ناک) میں سفیدی مائل پیلاہٹ شامل ہیں۔
- ہائپوتریمیا کی علامتوں کو جانیں جس میں بے قابو کپکپی، یادداشت کا چلے جانا، بے ربطگی، غنودگی اور تھکن شامل ہیں۔
- گاڑی صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، اور تنہا سفر کرنے سے گریز کریں اور مرکزی سڑکوں پر سفر کریں۔
- طوفان کے باعث اگر آپ کے گھر میں بجلی یا حرارت کا نظام منقطع ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہئے کہ آپ عوامی پناہ گاہ میں پناہ لیں۔ آپ مقامی امریکی ریڈ کراس (313) 888 8816 یا سالویشن آرمی (888) 803-8858 سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔



سیلاب

- عمارت کے آس پاس سیلاب کا پانی اگر کم بھی ہو جائے تو پھر بھی عمارتوں میں داخل ہونے سے پرہیز کریں۔
- ایسی خوراک یا پانی جس میں سیلابی پانی شامل ہو گیا ہو، اس کو ضائع کر دیں۔
- بنیاد کو مزید نقصان سے بچانے کے لئے سیلاب سے متاثرہ تہہ خانوں سے آہستہ آہستہ پمپ کے ذریعے روزانہ تقریباً ایک تہائی پانی نکالیں
- متاثرہ مواد آلود ٹینک، گندگی سے بھرے حوض، گڈھے اور تقطیر کے نظام کی فوری مرمت کروائیں۔
- گندگی کے نکاس کے خراب نظام صحت کے لئے خطرہ ہیں اور ان سے سیلاب کے مضر اثرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

موادوں کے خطرناک واقعات

- اگر آپ نے گھر سے انخلاء کیا ہے تو مقامی حکام کی جانب سے محفوظ ہونے کی یقین دہانی کے بغیر واپس گھر مت جائیں۔
- گھر پہنچ کر، تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں اور قدرتی ہوا کو اندر آنے دیں۔
- میکانیکی ہواداری (پمپ کے پیکھے) چلانے کی کوشش مت کریں، اس طرح کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔
- مقامی حکام سے معلوم کریں کہ اپنی اراضی اور املاک کی صفائی کیسے کی جائے۔
- مضر موادوں سے آلودہ خوراک اور پانی کی رسد ضائع کر دیں۔

اگر آپ حفاظتی طریقوں، کسی سانحے کے بعد گھر واپسی، یا کسی ہنگامی صورتحال کی تیاری کے بارے میں سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو می کام کاؤنٹی ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ کیوٹی کیشن کو اس نمبر 5270-469 (586) پر کال کریں۔ اگر آپ اپنی خوراک اور پانی کی حفاظت سے متعلق سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو می کام کاؤنٹی کے محکمہ صحت سے اس نمبر 5236-469 (586) پر رابطہ کریں۔





دہشت گردی کے 8 اشارے

1 نگرانی

کسی کی سرگرمیوں کی ریکارڈنگ یا نگرانی۔

اس میں کیمروں کا استعمال (ساکت یا ویڈیو)، نوٹ لینا، خاکہ بنانا، نقشوں پر تشریح لکھنا، یا دوربین یا چشم نظر بڑھانے والے دیگر آلات کا استعمال شامل ہو سکتا ہے۔

2 اہم معلومات اکٹھا کرنا

قانون نافذ کرنے والے اداروں اور / یا فوجی کارروائیوں، صلاحیتوں، یا لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے افراد یا تنظیمیں۔ اہم معلومات اکٹھا کرنے کی کوششیں ڈاک، فیکس، ٹیلیفون کے ذریعے یا ذاتی طور پر کی جاسکتی ہیں۔

3 سلامتی کی جانچ

سیکورٹی کی خلاف ورزیوں پر رد عمل کے وقت کی پہچان کرنا یا سلامتی کی طبعی رکاوٹوں میں داخل ہونے کی کوشش تاکہ قوتوں اور کمزوریوں کا اندازہ لگایا جاسکے۔

4 رسد حاصل کرنا

دھاکہ خیز مواد، اسلحہ، گولہ بارود، وغیرہ کی خریداری یا چوری۔ اس میں فوجی وردی، ڈیکال، جہاز اڑانے کا دستور العمل، پاس یا اینج (یا اس طرح کی اشیاء تیار کرنے کا ساز و سامان)، یا دوسری اس طرح کی ضابطہ کردہ اشیاء حاصل کرنا شامل ہیں۔

5 جگہ سے باہر مشتبہ افراد

ایسے افراد جن کا کام کے مقام، محلے، کاروباری ادارے یا کسی بھی جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں مشکوک طور طریقے سے بارڈر پار کرنے والے اور بحری جہاز میں چھپ کر بیرون ملک سفر کرنے والے یا بندرگاہ میں بحری جہاز سے کودنے والے افراد شامل ہیں۔

8 مالیات

دہشت گردوں کی مالی مدد کی عام علامات جو چیزیں شامل ہیں ان میں بڑی رقم کی مشکوک لین دین، رقم جمع کروانا یا نکلوانا شامل ہیں۔ چندہ اکٹھا کرنا، رقم طلب کرنا اور مجرمانہ سرگرمیاں بھی انتہائی علامات ہیں۔



6 آزمائشی مشق

حقیقی دہشت گردی کا ارتکاب کئے بغیر لوگوں کو مختلف مقامات پر تعینات کرنا اور اپنی منصوبہ بندی کے تحت ان کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اس طرح کا عمل انہماکی کارروائیوں کے لیے ہو سکتا ہے، تاہم ہم دھماکوں میں بھی اس طرح کیا جاسکتا ہے۔ اس سرگرمی کے عنصر میں راستوں کی نقشہ بندی اور ٹریفک کے اشاروں اور بہاؤ کے اوقات کا تعین کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔

7 تعینات کرنا

کارروائی کرنے کے لیے لوگوں اور اور سامان کی ان کی جگہوں پر تعیناتی۔ ایسی صورت میں حکام کو مطلع کرنے کے حوالے سے یہ بالکل آخری لمحہ ہوتا ہے۔

دہشت گرد حملہ کی تیاری

11 ستمبر 2001 کو ہونے والے حملوں کے بعد سے امریکہ کو لاحق دہشت گردی کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ انتہا پسند گروہ اور افراد کیمیائی، حیاتیاتی، دھماکہ خیز، ریڈیو لاجیکل اور اسٹی ہتھیاروں کے حصول کے لئے کوشاں ہیں۔ می کام کاؤنٹی کے علاوہ ریاست مشی گن اور ریاستہائے متحدہ میں عوامی تحفظ کے پیشہ ور افراد ہمارے ملک کی سلامتی کو مستحکم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔

تمام ہنگامی صورتحال مقامی طور پر شروع ہوتی ہیں، اور دہشت گردی بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے کہ تمام شہری ممکنہ خطرات اور ان کی تیاری کے طریقہ کار کو پہچانیں اور سمجھیں۔ اگرچہ یہ بنانا ناممکن ہے کہ کوئی واقعہ کس طرح افشاء ہوگا، ایسی کچھ آسان چیزیں ہیں جو ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لئے کر سکتے ہیں۔

کیمیائی اور حیاتیاتی حملہ

اس بات کا امکان موجود ہے کہ عام لوگ حادثاتی طور پر یا جان بوجھ کر کسی کیمیائی یا حیاتیاتی مواد کے زیر اثر آجائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کیمیائی یا حیاتیاتی موادوں کا اثر فوری طور پر ظاہر ہو، کیوں کہ ان میں سے بہت سے موادوں میں رنگ یا بو وغیرہ نہیں ہوتا۔

اشارے

- کسی سطح پر تیل والی پرت کے قطرے
- علاقے میں مردہ یا مرتے ہوئے جانور
- ناقابل بیان بدبو
- متلی، سانس لینے میں دشواری، تنگی، ہوش و حواس کے اختلاج کی علامات
- چلی سطح پر بننے والے ایسے بادل یا دھند جس کا موسم سے کوئی تعلق نہ ہو، دھول کے بادل؛ یا ہوا میں معلق ایسے ذرات جن کا کوئی رنگ بھی ہو

کئے جانے والے اقدامات

- جس جگہ حملہ ہوا ہے اس کی مخالف سمت میں چلنے والی ہوا کی جانب سفر کریں
- اگر انخلاء ممکن نہیں ہے تو گھر کے اندر جا کر تیار شدہ پناہ گاہ (صفحہ 18 پر رجوع کریں) میں چلے جائیں۔
- گیس ماسک پہن لیں، اگر دستیاب نہ ہو تو ایک کپ پانی میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا گھول کر اس محلول میں صاف کپڑا بھگو کر اس سے اپنا منہ اور ناک ڈھانپ لیں
- تنگی جلد کو بھی ڈھانپیں اور زخم اور چھلی ہو جگہ کو ڈھانپنا یقینی بنائیں۔
- اگر آپ کو لگ گیا ہے تو کپڑے اتار کر پلاسٹک کی کسی گھمیلی میں سیل کر دیں، فوری طور پر وافر مقدار میں صابن لے گرم پانی سے نہائیں یا بلچ کا پتلا 1:10 محلول استعمال کریں۔
- کسی کیمیائی یا حیاتیاتی چیز کے مضر اثرات کے زیر اثر آنے کے بعد ہمیشہ جلد از جلد طبی امداد حاصل کریں۔

جب بھی کوئی کیمیائی یا حیاتیاتی واقعہ پیش آتا ہے تو، صورتحال اور تیاری اور / یا جوابی ہدایات سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لئے اپنے مقامی ریڈیو یا ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کو سنتے اور دیکھتے رہیں۔

دہشتگرد حملے کی تیاری

بارودی حملے

دہشت گرد حملوں کے لیے عام طور پر دھماکہ خیز آلات استعمال کئے جاتے ہیں، ایک تو ان کے بارے میں معلومات بہت آسانی سے دستیاب ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو استعمال کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اپنے گرد و نواح سے باخبر رہنا ایک ایسا طرز عمل ہے جو اس قسم کا واقعہ پیش آنے پر چوکس رہنے میں مدد دیتا ہے۔

لکرنے کے اقدامات

- اگر آپ کو شبہ ہے کہ دھماکہ خیز آلہ پھٹنے والا ہے تو فوری طور پر وہ علاقہ چھوڑ دیں۔
- 1-1-9 پر کال کریں جب ایسا کرنا محفوظ ہو، اور اپنے خدشات سے آپریٹر کو آگاہ کریں۔
- ہدایات کے لئے مقامی، ریاستی اور وفاقی ہنگامی اطلاعاتی نظام (ٹی وی، ریڈیو وغیرہ) سنیں۔
- اگر آلہ پھٹ جائے تو اس بات کی جانچ کریں کہ کہیں آپ یا دوسرے لوگ زخمی تو نہیں ہوئے ہیں اور اگر ممکن ہو تو زخمیوں کی مدد بھی کریں۔

جوہری اور ریڈیولاجیکل حملے

جوہری حملہ ایک ایسے آلے کا استعمال ہوتا ہے جو جوہری دھماکے کرتا ہے، اس سے حرارت، روشنی، ہوا کا دباؤ اور تابکاری کی شدید لہر پیدا ہوتی ہے۔ ایک ریڈیولاجیکل حملہ روایتی دھماکہ خیز آلے کے ذریعہ، نقصان پہنچانے کے ارادے سے ریڈیولاجیکل مادے کو پھیلانا ہے۔ جوہری یا ریڈیولاجیکل حملے کی صورت میں مقامی، ریاستی، یا وفاقی حکام کی مناسب ہدایات سنیں اور ان پر عمل کریں۔ جوہری یا ریڈیولاجیکل حملے سے نمٹنے کے دوران تیار شدہ پناہ گاہ اور انخلاء بنیادی اقدامات ہیں (صفحہ 18 دیکھیں)۔ تابکاری سے خود کو بچانے کے لئے تین اہم تصورات وقت، فاصلہ اور بچاؤ ہیں۔

- وقت: تابکاری سے متاثرہ علاقے میں گزارے گئے وقت کی مقدار کو کم کرنا۔
- فاصلہ: جہاں سے تابکاری کا منبع آ رہا ہے اس سے اپنے فاصلے کو بڑھانا۔
- ڈھال بنانا: اپنے اور تابکاری کے منبع کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا۔

کئے جانے والے اقدامات

- ہدایات کے لئے مقامی، ریاستی اور وفاقی ہنگامی اطلاعاتی نظام (ٹی وی، ریڈیو وغیرہ) سنیں۔
- ہنگامی اطلاع کی ہدایت پر عمل کریں جس میں تیار شدہ پناہ گاہ یا انخلاء شامل ہو سکتا ہے (صفحہ 18 کا حوالہ دیں)۔
- تابکاری مادے سے بھری ہوئی ہوا سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا منہ اور ناک کسی بھگے ہوئے کپڑے سے ڈھانپ لیں
- جلد سے جلد آلودہ لباس کو ہٹا دیں۔ انہیں ایک سیل بند ڈبے میں رکھیں۔
- ممکنہ آلودگی کو دور کرنے کے لئے جلد کو آہستہ سے دھویں۔
- منہ میں کوئی چیز داخل مت کریں، مثال کے طور پر: کھانا، پینا، تمباکو نوشی۔



فعال
حملہ آور

فعال حمہ آور کی تیاری

امریکہ میں حالیہ واقعات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ حملہ آوروں کے فعال حملے کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ خود کو، اپنے پیاروں کو اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لئے، براہ کرم ان واقعات سے پہلے، دوران اور بعد میں ان بہترین طریقوں کا جائزہ لیں۔ اگر ابھی سے مناسب اقدامات کر لیں گے تو آپ ایسے وقت میں مدد ملے گی جب وقت کم ہوگا۔

پہلے سے تیاری

- اگر آپ کو کوئی مشکوک چیز نظر آتی ہے تو حکام کو فوراً آگاہ کریں۔
- جن جگہوں پر آپ باقاعدگی سے جاتے ہیں (مثلاً کام کی جگہ، عبادت گاہ وغیرہ) وہاں حملہ آور کے فعال منصوبوں سے واقفیت حاصل کریں۔ معلوم کریں کہ آیا آپ مشق یا تربیت میں حصہ لے سکتے ہیں۔
- جب شاپنگ مالز اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات جیسی بڑی کھلی عمارت میں جائیں تو قریب موجود انخلاء کے دو راستوں کی نشاندہی کر لیں۔ اسے عادت بنائیں۔ اسے ایک کھیل میں بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
- کسی بھی ماحول میں چھپی ہوئی جگہوں کا نقشہ بنانے میں وقت لگائیں۔ ان میں ٹھوس دروازے اور تالے والے کمرے، کھڑکیوں کے بغیر کمرے اور بھاری فرنیچر والے کمرے شامل ہو سکتے ہیں۔
- فعال حملہ آور اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لئے سائن اپ کریں۔

دوران

- بھاگیں - واقعے سے دور ہونا آپ کی اولین ترجیح ہے۔ اگر آپ کا سامان گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے مت رکیں، اور اگر اس قابل ہوں تو باہر جاتے ہوئے دوسروں کو متنبہ کریں۔ جب ایسا کرنا محفوظ ہو تو حکام کو آگاہ کریں۔
- چھپ جائیں - اگر فرار ہونے یا بھاگنے کا کوئی ممکنہ راستہ نہیں ہے تو چھپنے کے لئے ایک محفوظ جگہ تلاش کریں۔ حملہ آور کی نظروں سے دور رہیں اور ٹھوس دروازے والا اور تالا لگا ہوا، کھڑکیوں کے بغیر اور بھاری فرنیچر والا کمرہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ برقی آلات کو خاموش کر دیں اور خاموشی سے حکام کو مطلع کریں؛ اس میں کسی پیغام رسانی یا دروازے / کھڑکی سے باہر کی طرف اشارے شامل ہو سکتے ہیں۔ کسی کے لئے دروازہ مت کھولیں جب تک کہ حکام آپ کو اشارہ نہ دے دیں کہ سب ٹھیک ہے۔
- لڑیں - جب ضروری ہو اور فوری طور پر خطرہ ہو تو اپنا دفاع کریں۔ حملہ آور کو روکنے کا بہترین طریقہ جارحانہ اور فوری کارروائی کرنا ہے۔ کرسیاں، آگ بجھانے والے آلات اور کتابوں جیسے عارضی ہتھیاروں سے گھات لگائے ہوئے بندوق چلانے والے کی توجہ ہٹا سکتے ہیں اور مداخلت کر سکتے ہیں۔

بعد میں

- اپنے ہاتھوں کو آزاد اور خالی رکھیں۔
- قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بنیادی کام خطرے کو ختم کرنا ہے۔ شاید وہ امداد فراہم کرنے سے نہ رکیں۔
- قانون نافذ کرنے والی تمام ہدایات پر عمل کریں۔
- اس تکلیف دہ واقعے سے بازیابی میں مدد کے لئے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لئے پیشہ ورانہ مدد پر غور کریں۔



کال کرنا

1-1-9

1-1-9 پر کال کریں

کسی بھی ہنگامی صورتحال یا تباہی سے متعلق حکام کو مطلع کرنے کے لئے 1-1-9 پر کال کرنا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔

1-1-9 پر پیغام بھیجیں

1-1-9 پر پیغام آپ کے موبائل فون یا آلے سے ہنگامی صورتحال کی کال وصول کرنے والوں تک رسائی کے لئے متن پر مبنی پیغام بھیجنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم، چونکہ فی الحال متن کو صرف مخصوص جگہوں پر ہی دستیاب ہے، لہذا آپ کو جب بھی ممکن ہو کسی ہنگامی صورتحال کے دوران 1-1-9 پر رابطہ کرنے کے لئے صوتی کال کریں۔

اسمارٹ 9-1-1

ہنگامی صورتحال کے دوران مدد فراہم کرنے کے لئے 1-1-9 پر کال وصول کرنے والوں کو جس طرح کی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں شہریوں کو اضافی معلومات اسمارٹ 911 پر مل سکتی ہے، جن میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں: ذاتی اور گھریلو معلومات، طبی معلومات، پتہ اور مقام کی معلومات اور کوئی اور چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ کاروائی کرنے والوں کو معلوم ہو۔ مزید معلومات کے لئے ملاحظہ کریں www.smart911.com

اسمارٹ 911 کے ذریعے دستیاب:

حفاظتی پروفائل

1-1-9 کو اضافی معلومات فراہم کریں تاکہ وہ کسی ہنگامی صورتحال میں آپ کی تیزی سے مدد کر سکیں۔

انتباہ اور اطلاعات

اپنی کیونٹی میں موسم، ٹریفک اور دیگر ہنگامی صورتحال سے آگاہ رہیں۔

کنزور لوگوں کو چاہئے کہ اندراج کروائیں

اگر کوئی آفت آتی ہے تو ہنگامی صورتحال کے منتظمین کو انتباہ کریں کہ آپ کو خصوصی مدد کی ضرورت ہے۔





Emergency Management

اس مشقی کتاب کو پڑھنے کے لئے آپ کا شکریہ

اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں تو براہ کرم رابطہ کریں
می کام کاؤنٹی ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ کمیونٹی کیشن

5270-469-586 پر یا • mcoem.macombgov.org ملاحظہ کریں



**Emergency
Management**

ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ کمیونٹی کیشن • (685) 964-0725 • gro.vogbmocam.meocm